



THE
SENATE OF PAKISTAN
DEBATES

OFFICIAL REPORT

Monday, August 19, 2013

(97th Session)

Volume IX, No.01

(Nos.01-10)

CONTENTS

	Pages
1. Recitation from the Holy Quran.....	1-2
2. Panel of Presiding Officers.....	3
3. Leave of Absence.....	4
4. Resolutions:	
i. Unprovoked Aggression by Indian Army Across LOC and Attacks on Pakistan High Commission and the PIA Office in New Delhi India.	4
ii. The use of force by the Egypt's Military Rulers Against the Unarmed Civilians.	5-12
5. Congratulation - on the Award of Degree of Doctorate to Senator Dr. Muhammad Jahangir Bader.	13-23

Printed and Published by the Senate Secretariat, Islamabad.

SENATE OF PAKISTAN

SENATE DEBATES

Monday, August 19, 2013

The Senate of Pakistan met in the Senate Hall (Parliament House) Islamabad, at six in the evening with Mr. Acting Chairman (Mr. Sabir Ali Baloch) in the Chair.

Recitation from the Holy Quran

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ-

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ- وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ- وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ- وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ- إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ- وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ-

ترجمہ: اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم رکھی اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے اور ہمارے دیے سے کچھ ہمارے راہ میں خرچ کرتے ہیں اور وہ کہ جب انہیں بغاوت پہنچے بدلہ لیتے ہیں اور برائی کا بدلہ اسی کی برابر برائی ہے تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ پر

ہے۔ بے شک وہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو اور بے شک جس نے اپنی مظلومی پر بدلہ لیا ان پر کچھ مواخذہ کی راہ نہیں۔ مواخذہ تو انہیں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور بے شک جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو یہ ضرور بہمت کے کام ہیں۔

سورۃ شوریٰ (آیات 38 تا 43)

جناب قائم مقام چیئرمین: جی رضا ربانی صاحب۔

سینیٹر میاں رضا ربانی: سینیٹر سعید غنی صاحب کے صاحبزادے کی death پچھلے ہفتے ہوئی ہے اگر فاتحہ ہو جائے۔

جناب قائم مقام چیئرمین: مولانا صاحب! سعید غنی صاحب کے بیٹے کے لیے فاتحہ کی جائے۔

(فاتحہ خوانی کی گئی)

جناب قائم مقام چیئرمین: سعید صاحب! بڑا افسوس ہوا ہے۔

Panel of Presiding Officers

Mr. Acting Chairman: In pursuance of sub-rule (1) of Rule 14 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate, 2012, I nominate the following members in order of precedence to form Panel of Presiding Officers for the 97th session of the Senate of Pakistan:-

- i) Senator Ch. Mohammad Jaffar Iqbal
- ii) Senator Gul Muhammad Lot
- iii) Senator Nasreen Jalil

Leave of Absence

جناب قائم مقام چیئرمین: سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ صاحب ذاتی مصروفیات کی بنا پر گزشتہ 95 ویں اجلاس کے دوران مورخہ 12 تا 21 جولائی اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے، اس لیے انہوں نے ان تاریخوں کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا رخصت منظور ہے؟

(رخصت منظور کی گئی)

جناب قائم مقام چیئرمین: جناب ہری رام نے ذاتی مصروفیات کی بنا پر مورخہ 19 تا 23 اگست ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا رخصت منظور ہے؟

(رخصت منظور کی گئی)

جناب قائم مقام چیئرمین: نوابزادہ محمد اکبر لگی نے ذاتی مصروفیات کی بنا پر مکمل اجلاس کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا رخصت منظور ہے؟

(رخصت منظور کی گئی)

جناب قائم مقام چیئرمین: سردار فتح محمد محمد حسنی نے ذاتی مصروفیات کی بنا پر آج مورخہ 19 اگست کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا رخصت منظور ہے؟

(رخصت منظور کی گئی)

جناب قائم مقام چیئرمین: نوابزادہ سیف اللہ لگی نے ذاتی مصروفیات کی بنا پر مورخہ 19 تا 23 اگست ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا رخصت منظور ہے؟

(رخصت منظور کی گئی)

جناب قائم مقام چیئرمین: حاجی محمد عدیل نے ذاتی مصروفیات کی بنا پر آج مورخہ 19

اگست کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا رخصت منظور ہے؟

(رخصت منظور کی گئی)

جناب قائم مقام چیئرمین: راجہ صاحب! آپ نے resolution پیش کرنا ہے۔

Senator Raja Muhammad Zafar-ul-Haq (Leader of the House): Thank you Mr. Chairman. I beg to move the following resolution:-

Resolutions:

Unprovoked Aggression by Indian Army Across the LOC and Attacks on Pakistan High Commission and the PIA Office in New Delhi India.

“This House unanimously condemns the unprovoked aggression by Indian Army across the line of control in recent days. It also condemns the attacks on Pakistan High Commission and the demonstration outside the PIA offices in New Delhi and the efforts to prevent the friendship bus from proceeding to Pakistan. It deplores the unjustified public vilification of Pakistan in the Indian media. The House accordingly calls upon the Government to clearly convey to the Government of India the necessity to respect and uphold the ceasefire agreement of 2003 in letter and spirit. This House also reiterates that Pakistan shall continue to endorse the just and legitimate struggle of the Kashmiri people for the realization of their right to self-determination as enshrined in the UN Security Council resolutions while Pakistan is committed to work for peace with its neighbours. It remains steadfast in its resolve to fully defend

its sovereignty, territorial border and national interest. It salutes its brave and valiant armed forces and assures them of its fullest support in achieving its objective.”

Mr. Acting Chairman: I now put the resolution before the House as moved by Senator Raja Muhammad Zafar-ul-Haq, Leader of the House.

(The Resolution was passed unanimously)

Mr. Acting Chairman: The Resolution is passed unanimously. Yes, Raza sahib.

The use of force by the Egypt's Military Rulers Against the Unarmed Civilians.

سینیٹر میاں رضا ربانی: جناب چیئرمین! یہ قرارداد بھی سارے ہاؤس کی جانب سے ہے اور اس کا تعلق مصر میں جو موجودہ صورتحال ہے اس سے ہے اور میں آپ کی اجازت کے ساتھ اسے move کرتا ہوں۔

“The Senate of Pakistan resolves as under:

The bloody Crackdown on protesters by Egypt's Military Rulers is strongly condemned the use of force against unarmed civilians has resulted in loss of innocent lives of over 500 people in Cairo and other cities is indeed a tragic event. The military regime should ensure that legal and constitutional issues are addressed through a dialogue amongst all parties in an inclusive and peaceful manner to enable the country to successfully restore the democratic institutions as early as possible. In this they should learn from the Pakistani example in which a peaceful transition of power from democratic

government to another has taken place. We cannot hold back support for the rights of any people to do politics within a democratic framework and not to be persecuted at the hands of military dictators.

جناب قائم مقام چیئرمین: راجہ صاحب! آپ کچھ کہنا چاہیں گے۔

سینیٹر راجہ محمد ظفر الحق: میں اس resolution کو endorse کرتا ہوں۔ یہ بھی unanimous resolution ہے۔ مصر پاکستان کا ایک دوست مسلمان ملک ہے اور ہم مصر میں امن، خوشحالی اور اس کی territorial integrity کو محفوظ رکھنے کے خواہشمند ہیں اور ہمیں افسوس اور دکھ ہوتا ہے کہ وہاں کی مسلح افواج نے نینتے شہریوں کے اوپر جس طریقے سے گولیاں برسائی ہیں، ان کے اوپر ٹینک چڑھائے ہیں اور آٹھ سو سے زیادہ لوگ اس وقت شہید ہو چکے ہیں، ہزار ہا لوگ زخمی ہیں اور ابھی تک یہ معاملہ تھمنے کو نہیں آرہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں OIC کو اور باقی جو مسلمان ممالک ہیں انہیں اپنی آواز بلند کرنی چاہیے اور اس ملک میں امن قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ جو ایک عوامی انقلاب کے ذریعے انتخابات ہوئے تھے اور ان کے نتیجے میں ایک حکومت آئی تھی اسے کام کرنے کا دوبارہ موقع دیا جائے۔

جناب قائم مقام چیئرمین: شکریہ۔ جی مشاہد صاحب۔

سینیٹر مشاہد حسین سید: سب سے پہلے تو I would like to endorse both the resolutions اور اس کے بعد بڑی مختصر سی بات کرنی ہے۔ ایک تو LOC کے اوپر بات کرنی ہے کہ I would like to ask the government that also it is not just a question of line of control. and I hope the Government of Pakistan, the Prime Minister of Pakistan, the Foreign Ministry of Pakistan will take a strong position on the issue of Kashmir. یہاں پر ہندوستان کے ساتھ dialogue کی بات ہوتی ہے which we support لیکن کشمیری عوام کا جو right of self-determination ہے اس کا ذکر نہیں ہوتا and I

about the expect that they will do that. issue of Dr. Mursi. Mr. Chairman, today is a very auspicious and there was famous anniversary! آج 19 اگست ہے اور August 19, 1953 کو an Anglo American conspiracy for a coup against Dr. Mussadiq of Iran. آج کے دن ساٹھ سال پہلے August 19, 1953 کو ڈاکٹر مصدق کے خلاف coup ہوا تھا اور we know what the consequences were. 60 years اس کے ساٹھ سال پہلے later یہ بھی ایک coup ہوا ہے and it is an Anglo American coup اور اس میں کچھ and unfortunately there is a total silence of the عرب ممالک بھی involve ہیں OIC and I hope that the Government of Pakistan will take up this issue at the OIC also there has been a systematic massacre of Egyptian people across the lines. I think we should all condemn it that is very positive ہم نے ایک بڑی افسوسناک خبر سنی تھی۔ ہمارے بھائی سعید غنی کے صاحبزادے کے انتقال کی یہ ایک دوسرا رخ ہے کہ joy and sorrow they are first cousins. ابھی ایک اچھی خبر بھی آئی ہے کہ ہمارے ہاں ڈاکٹر جہانگیر بدر صاحب ایک سینیٹر ہیں and he has just got Ph.D Degree from the University of the Punjab اس سلسلے میں

I think we should honour our colleague, the Senate of Pakistan expresses its heartiest congratulations on the award of a degree of Doctorate of Philosophy to Senator Dr. Jahangir Bader by the University of the Punjab. Pakistan's oldest seat of learning. This is a matter of pride and honour for the Parliament of Pakistan that a serving Senator who was then Leader of the House also when he was doing his doctoral dissertation, worked so hard during his Parliamentary tenure for the Ph.D and that too at a time when so many parliamentarians have had fake degrees. The Senate of Pakistan wishes all the best to Dr. Jahangir Bader and welcomes it

as another feather in his cap. This time an academic achievement in addition to his long political struggle and may I add Mr. Chairman, that his doctoral dissertation is on political leadership, a case study of Benazir Bhutto and we all wish him *mubarakbad*. Thank you very much.

Mr. Acting Chairman: Now I put the resolution regarding Egypt moved by Mian Raza Rabbani.

(The resolution was passed unanimously)

Mr. Acting Chairman: The resolution is passed unanimously.

جناب! میں ذاتی طور پر بڑا concerned ہوں اور مشاہد صاحب نے قرارداد بھی پیش کی کہ جہانگیر بدر صاحب جنہوں نے پاکستان کی ایک انتہائی prestigious and oldest University سے Ph.D کی degree حاصل کی ہے اور وہ ڈگری بھی ایک ایسی political party کی leadership پر تحقیق کر کے حاصل کی ہے جنہوں نے جمہوریت کی بقاء، عوام کی سر بلندی، عوام کے standard کو upgrade کیا اور پاکستان کے پے ہوئے عوام کو ایک مقام دینے کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی ہے۔ ڈاکٹر جہانگیر بدر کی ایسی شخصیت پر تحقیق قابل ستائش ہے۔ اس پر بہت سارے مضامین اور کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ بھٹو خاندان نے پاکستان کے عوام کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ تاریخ میں رقم کی گئی ہیں۔

میں اس سلسلے میں بدر صاحب! آپ کو اپنے دل کی گھمرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں پر امید ہوں کہ اور بھی ایسے لوگ ہوں گے جو انشاء اللہ بھٹو صاحب کے خاندان اور پیپلز پارٹی کے اوپر اور بھی تحقیقات کریں گے لیکن آپ کو یہ credit جاتا ہے کہ آپ نے اس کی ابتدا کی ہے۔ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ آپ آج سے ڈاکٹر جہانگیر بدر صاحب ہیں بلکہ آپ کا یہ کارنامہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ شکریہ۔ اب اگر کسی نے اس مسئلے پر کچھ کہنا ہے تو مجھ لے۔

سینیٹر محمد زاہد خان: یہاں پر مصر کے متعلق unanimous resolution پاس ہوئی ہے لیکن جہاں تک مصری فوج کی بربریت ہے اس کو تمام ذی شعور condemn کریں گے۔ جناب! اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر آئی جسے ہمارے اپنے channels نے بھی چلایا۔ یہ بد قسمتی ہے کہ اگر شام میں کچھ ہوتا ہے تو پاکستانیوں کا نام آتا ہے کہ وہ وہاں پکڑے گئے ہیں۔ عراق میں کچھ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ پاکستانی پکڑے گئے اور ابھی یہ کہا جا رہا ہے ہے کہ مصر میں پاکستانی پکڑے گئے۔ اگر جیپنیا میں پکڑے جاتے ہیں تو یہ سمجھ تو آتی ہے کہ مسلمان ہیں جا کر ہمدردی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ میرا حکومت سے مطالبہ ہے کہ Foreign Office سے contact کریں اور فوراً اس کی انکوائری کریں کہ واقعی پاکستانی ادھر لڑ رہے تھے، ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو دنیا کو بتادیں ورنہ دنیا میں جہاں بھی کچھ ہوتا ہے تو ہمارا نام آتا ہے۔ ہمارے ملک کی صورت حال تو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمسایہ ملک ایران ہم سے ناراض ہے، افغانستان ہم سے ناراض ہے، ہندوستان کو چھوڑ دو، چائنا ہم سے ناراض اگر یہی صورت حال ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کچھ ہوتا ہے، اس میں ہم موجود ہوتے ہیں، ہم وہاں پر جہاد کرتے ہیں۔ خدارا! اس کے لیے کوئی واضح پالیسی تو بنادیں کہ کیا یہ ہمارا کام ہے، ہم نے یہ کام پکڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے وہ بری چیز ہے، اس کو پوری دنیا condemn کرتی ہے لیکن ہمارا کیا کام ہے۔ Leader of the House سے میری درخواست ہے کہ Foreign Office فوراً اس بات کی انکوائری کرے اور ہاؤس کو بتائیں کہ یہ لوگ اگر تھے تو کیا یہ مزدور تھے؟ کیا نوکری پیشہ تھے یا جہاد کے لیے گئے تھے تاکہ قوم کو بھی پتا لگے اور دنیا کو بھی پتا لگے کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں۔

جناب قائم مقام چیئرمین: جی بابر صاحب۔

Senator Farhatullah Babar: Thank you Mr. Chairman.

While everyone of us has endorsed all the two resolutions, I just want to make a brief comment on the resolution about the LoC (Line of Control).

جناب چیئرمین! Line of Control پر جو flare up ہوا ہے اس پر بڑی تشویش ہے۔ میں صرف اس میں یہ add کرنا چاہتا ہوں بلکہ اس خیال کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اس سال کے

مشروع میں بھی اس طرح Line of Control پر ایک flare up ہوا تھا اور اس وقت بھارت نے پاکستان پر الزام لگایا تھا تو ہم نے یہ offer کی تھی کہ Line of Control پر جو violation ہوئی ہے، اس کی غیر جانبدار inquiry کرائی جائے اور United Nations Military Observers Group کے ذریعے یہ inquiry کرائی جائے۔ جناب چیئرمین! میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر جو الزامات لگ رہے ہیں، ان الزامات کا جواب دینے کے لیے یہ مناسب ہوگا کہ ہم یہ مطالبہ پھر کریں کہ Line of Control پر جو flare up کی ابتداء ہوئی تھی اس کی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات United Nations Military Observer Group سے کرائی جائیں۔ جب ہماری طرف سے ایسا مطالبہ آئے گا تو دوسری جانب سے ہمارے اوپر لگنے والے الزامات کی شدت میں کمی آئے گی اور ہمارا case زیادہ strong ہوگا۔

Thank you very much.

جناب قائم مقام چیئرمین: جی مندوخیل صاحب۔

Senator Muhammad Humayun Khan: Thank you very much. I would like to join all my colleagues who spoke against Indian aggression on the Line of Control and I would also demand that an investigation be carried out to a certain extent. What has been done and who has been responsible and our Foreign Office should take up this issue with India forcefully. Apart from that Sir, there has been news that our three Eastern Rivers, Satluj, Ravi and Chanab, the Indian authorities have let the water released which has caused tremendous amount of damage in Pakistan, be it land, people being displaced, people being killed and a lot of other damages but I don't see anything or any action being taken on part of the Government uptil now along with the Line of Control incident. This issue may be taken up with the Indian authorities because if this continues on, this is a kind of water terrorism. Are we going to be dependent on whatever they do to us. Already we have

monsoon rains, a lot of rains, a lot of water is being poured over here in our own country and they let water in our rivers. So, this is unacceptable and I think we should take up this issue. If India does not do anything, we should take this issue in the United Nations as well.

Apart from that I would like to endorse the resolution moved for what has been done in Egypt and I have got reports that *jihadis* are being sent from UK and the Government of UK knows about it and I demand from the Government of UK and if they know and if such thing is being happening, they should be stopped immediately because if they are for democracy, they should not let anything happen like this. Thank you very much sir.

جناب قائم مقام چیئرمین: جی عباس صاحب۔ عباس خان وقت کا خیال رکھیں۔

سینیٹر عباس خان: جناب والا! میں انڈیا کے issue پر بات کروں گا۔ بد قسمتی سے ہم اس پارلیمنٹ میں پرانے دستور کو دہراتے ہیں، جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہم اپنے ملک پر خود ہی لے لیتے ہیں۔ ہمارے میڈیا کے بھائی بھی خود ہی لے لیتے ہیں۔ کچھ دن پہلے انڈیا میں یہی واقعہ ہوا تھا کہ جیسے ہی بمبئی حملہ ہوا، وہاں کے کرنل نے کہا تھا کہ یہ ہمارا اپنا کیا ہوا پلان ہے لیکن اس پر ہاؤس نے کچھ اظہار نہیں کیا۔ ہمارے زیادہ تر ارکان کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی خرابی کی تصویر خود ہی دنیا کو دیتے رہیں گے۔ خرابی سارے ملکوں میں ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہماری چار دیواری میں دوسرا مداخلت کرے۔ آج ایک ملک کی آرمی کا ہیڈ ہمارے بارے میں کچھ کہتا ہے وہ کیوں؟ اس پر ہمارے میڈیا کے بھائی بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ مجھے اس ناثر کی سمجھ آج تک نہیں آئی۔ ہمیں اتفاق رائے سے اپنے ملک کی dignity اور respect کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے۔ شکریہ۔

جناب قائم مقام چیئرمین: کلثوم پروین صاحبہ۔

سینیٹر گلشوم پروین: شکریہ جناب چیئرمین! میں بات تو دو تین issues پر کرنا چاہوں گی اور میں چاہوں گی کہ مجھے تھوڑا سا وقت دیا جائے۔ ہمارے لیڈر آف دی ہاؤس نے جو قرارداد پیش کی ہے یقیناً میں اس کی تائید کرتی ہوں اور میری پارٹی بھی تائید کرتی ہے۔ اس وقت بربریت کا مظاہرہ جو مصر میں ہو رہا ہے، اس وقت تمام مسلم ممالک ایک بہت بڑی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ ایک ایسی confusion پیدا کر دی گئی ہے کہ مسلمان ہی مسلمان کو مار رہا ہے۔ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی لوگوں کا خون ہو رہا ہے۔ ایک جمہوری حکومت کو بٹانے کے بعد جس طریقے سے بربریت کا مظاہرہ کیا گیا وہ میرے خیال میں قابلِ شرم ہے۔

جناب چیئرمین! جہاں تک میرے ساتھیوں نے جہاد اور جہادی کی بات کی ہے۔ اس چیز میں ہمیں حکومت بنا سکتی ہے کہ کیا ہماری طرف سے کوئی اس قسم کی movement ہوئی ہے ایسا نہ ہو کہ کل چاند پر لڑائی ہو تو پتا چلے اور یہی کہا جائے کہ پاکستانی موجود تھے۔ اس کے لیے اگر پوری رپورٹ سینیٹ کو دی جائے، ہمارے مخلص لوگ وہاں پر بھی موجود ہیں، وہ بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں جتنی ہم محبت کرتے ہیں، اس میں کسی کی کوئی دورانیہ نہیں ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ Foreign Committee اس matter کو دیکھے اور آیا اس قسم کی کوئی movement ہوئی ہے ہمارے ملک سے تو پھر میرے خیال میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے۔ ایک طرف ہم افغان بارڈر پر لڑ رہے ہیں، دوسری طرف انڈیا نے جو صورت حال پیدا کی ہے۔ اس وقت ہم سیلاب کی زد میں ہیں۔ ہمارے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات چاہے وہ مسلم ہیں یا غیر مسلم اچھے نہیں ہیں جس کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم قابلِ فخر حالات سے گزر رہے ہیں۔

جناب چیئرمین! عید سے ایک دن پہلے جو خود کش حملہ ہمارے پولیس کے افسران پر ہوا، آپ نے دیکھا کہ ہمارے کتنے نوجوان اور ہمارے کتنے پولیس آفیسر اس میں شہید ہوئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے پہلے ہاؤس شروع ہوتے ہی ہمیں اپنے ان پولیس آفیسر کے لیے فاتحہ پڑھنی چاہیے تھی۔ ہمارے لوگ جو سیلاب میں بہ گئے ہیں، جن کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، وہ لوگ جو کراچی میں ٹارگٹ کلنگ میں مارے گئے ہیں، ہمارے ملک میں روزانہ دو سو، تین سو، اب تو کوئی حد ہی نہیں رہی، یہ آج کی بات

نہیں ہے، اس بات کو بہت عرصہ ہو گیا ہے، اب اس ہاؤس کو، تمام سیاسی پارٹیوں کو، ہم سب کو مل کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہے۔

جناب چیئرمین! روٹی نہیں چاہیے، ہمیں اچھی خوراک نہیں چاہیے، ہمیں health بھی نہیں چاہیے، صرف دہشت گردی سے نجات دے دیں۔ ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے بھائی کٹ رہے ہیں، ہمارے سپاہی اپنی وردی میں کمپن ڈیوٹی نہیں دے سکتے۔ بغیر یونیفارم میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے FC کے نوجوان، فوج بھی اب شاید شہر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ جناب چیئرمین! میں کھتی ہوں، ہماری حکومت نے، ہمارے وزیراعظم نے جس دن دہشت گردی کو ختم کر دیا میں سمجھوں گی اس سے بڑی ان کی فتح اور کوئی نہیں ہوگی۔ آپ لاکھ چیزیں کریں جب تک ہم اس دہشت گردی کا شکار ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ بھی کوئی گئے تھے میں بھی گئی تھی، do you believe کہ ہم پانچ دن تک گھر سے باہر نہیں نکلے، ہم نے کوشش کی اور گھر میں ہی ملاقاتیں رکھیں۔ مسجد میں ایک ایک بندہ جا کر عید کی نماز پڑھ رہا تھا۔ جناب چیئرمین! یہ بے میرا پاکستان، یہ بے آپ کا پاکستان، یہ بے قائد اعظم کا پاکستان۔ ہمیں سیلاب کچھ نہیں کھتا، ہم اس سے نکل جائیں گے۔ ہمیں بھوک و پیاس بھی کچھ نہیں کھے گی، ہم مسلمان ہیں، ہم میں اتنی ہمت اور طاقت ہے، جب ہم انیس گھنٹے کا روزہ رکھ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہوئی ہے، جناب چیئرمین! ایک چیز دہشت گردی ہے جو اس ملک کو ڈوب رہی ہے، مار رہی ہے۔ جناب چیئرمین! اگر اس دہشت گردی پر قابو نہ پایا گیا تو پھر کون سا پاکستان، کون سا ملک، کون سے لوگ، کون سی سینٹیٹ اور کون سی قوم۔ شکریہ۔

جناب قائم مقام چیئرمین: جی سینیٹر کرنل مشدہی صاحب۔

Congratulations to Senator Dr. Muhammad Jahangir

Bader on the Award of Degree of Doctorate.

Senator Col. (R) Syed Tahir Hussain

Mashhadi: Thank you. Mr. Chairman, on behalf of MQM, I have the honour to endorse and support and by the way we are

signatory to both the resolutions, this morning passed by the honourable Leader of the House and honourable Parliamentary Leader of Pakistan Peoples Party regarding Egypt and Indian aggression along the LoC.

As they are very well worded, I will not waste the House's time on repeating arguments. However, I must appreciate and congratulate Senator Mushahid Hussain Syed for showing the true democratic spirit, that is, the essence of democracy. He brought to our notice and he congratulated Senator Dr. Jahangir Bader on attainment of the highest degree of doctorate. Ph.D. means that we have amongst us a recognized scholar and it goes to the credit of this House and it will go to the benefit of this House and the benefit of democracy and the benefit of the people of Pakistan in that way. Dr. Jahangir Bader is a polished politician, a seasoned Parliamentarian, a man who loves the poor, the meek, the humble, he has spent a lifetime in the service of humanity of the poor and suffering people of Pakistan and irrespectively of what party he belongs to, he is respected by every political worker in Pakistan. Now, that was all known about him but his scholarly achievements have just come to the fore and I must also congratulate him on his in depth study and an original study into the life and times of one of the greatest leaders Pakistan has produced or will ever produce, Mohtarma Benazir Bhutto *Shaheed*. She belongs to the illustrious Bhutto family, that is, well known. Her sacrifices for democracy are well known, her courage in the face of adversary is well known but there was certain incidence in her life which was not so well known. The will, the courage, the democratic spirit, the urge to serve the people of Pakistan and the final greatest sacrifice of all to

give her life for democracy and the people of Pakistan is a study, well worth spending his time on and I congratulate him that he has written this thesis. It will be to the advantage of all politicians and I would like to congratulate him on behalf of my leader, Mr. Altaf Hussain, the Rabita Committee of MQM and we all the workers of MQM. Thank you very much, Mr. Chairman.

جناب قائم مقام چیئرمین: جی کامل علی آغا صاحب۔

سینیٹر کامل علی آغا: شکریہ جناب چیئرمین! سب سے پہلے تو میں دونوں resolutions کو endorse کرتا ہوں بلکہ تیسرے resolution کو بھی جو مشاہد حسین سید صاحب نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملنے پر ڈاکٹر جہانگیر بدر صاحب کو مبارکباد دی ہے۔

بلاشبہ اس میں کوئی شک نہیں، ہم ایک ہی گراؤنڈ پر کھیلنے رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ مخالف ٹیموں کی طرف سے کھیلنے رہے ہیں لیکن مخالف ٹیم کے کھلاڑیوں کی achievements کا، ان کی طاقت کا اور ان کی courage کا پتا ہوتا ہے۔ مقابلے پر ہمیشہ جہانگیر بدر ایک اچھا سیاسی کارکن ثابت ہوا اور میں آپ کو یہ بھی مبارکباد دے دوں کہ جہانگیر بدر صاحب کے پاس پہلے بھی سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے بھی ایک ڈاکٹریٹ کی ڈگری تھی اور آج ان کو دوسری ڈگری ملی ہے، ڈبل ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملنے پر میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔

جناب چیئرمین! آج یہاں پر جو دو resolutions پیش ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک resolution پر حکومتی بنچوں والے بھی agree کریں گے، میں نے راجہ ظفرالحق صاحب سے بھی گزارش کی کہ ہم ایک اور مشترکہ resolution لے کر آئیں جو ہندوستان کی آبی جارحیت ہے اور تسلسل کے ساتھ ہر سال چل رہی ہے، وہ دہشت گردی کی صورت اختیار کر گئی ہے، ہم اس پر بھی اس ایوان میں بات کریں تاکہ ایک message جائے اور ہم resolve بھی کریں کہ اس کا حل کیا ہے تاکہ حکومت کو پارلیمنٹ کی طرف سے guideline ملے کہ اس معاملے میں کیا کرنا ہے اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے۔ آج دو resolutions pass ہوئے ہیں، ایک تو ہندوستان کی طرف سے تسلسل سے LOC کی خلاف

ورزی کی جارہی ہے۔ جناب چیئرمین! حیرت انگیز بات یہ ہے، وہاں کا media, bureaucracy and politicians admit کر رہے ہیں، انہوں نے 2005, 2008 سمجھوتہ ایکسپریس اور ممبئی دھماکوں جیسی بہت سی چیزیں admit کر لی ہیں۔ ان کے پانچ لوگ جو LOC پر مارے گئے، ان کے متعلق بھی حقائق record پر آچکے ہیں اور انہوں نے admit کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے ایک وزیر بات کرنے کے بعد مکر گئے ہیں۔ کچھ مکر نیاں تو بھارتی حکومت کی ہمیشہ رہی ہیں، چاہے وہاں پر جنٹا پارٹی ہو یا کانگریس حکمران ہو، ان کی کچھ مکر نیاں جاری رہتی ہیں۔ وہ تسلسل کے ساتھ جھوٹ بول کر سچ ثابت کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم دنیا کے سامنے ان کا اصل چہرہ نہیں لارہے؟ ہمیں لانا چاہیے۔ ہم کشمیر کے حقائق تسلسل، دل جمعی اور یکسوئی کے ساتھ بیان کرتے رہیں اور ایک پالیسی بنالیں کہ کشمیر کے متعلق ابتدا سے ہمارا جو موقف رہا ہے، اس پر آگے بڑھنا ہے۔ میں اس معاملے پر appreciate کرتا ہوں کہ Prime Minister نے یہ بات کہی ہے اور UN Secretary General جب یہاں پر تشریف لائے تو ان کو کہا کہ کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ یہ اچھی بات ہے لیکن اس کو تسلسل کے ساتھ آگے بڑھانا چاہیے۔ بھارت نے کشمیریوں پر ظلم اور بربریت جاری رکھی ہوئی ہے اور فوج مسلط کی ہوئی ہے۔ وہ کشمیر میں فوجی دہشت گردی جاری کیے ہوئے ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کے چہرے کو پوری دنیا کے سامنے پیش کریں شاید اس طریقے سے بھارت اپنی حرکتوں سے باز آئے۔ وہ LOC کی تسلسل سے جو خلاف ورزیاں کر رہا ہے اور ہم پر الزامات دھر رہا ہے، اس سے بھی باز آئے۔ حقائق سامنے آنے چاہئیں، ہمیں سچ کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، سچ کو آگے بڑھانا چاہیے اور اس سچ کو دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے۔

میں اگلی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک سچ اور بھی ہے جو ہم چھپا جاتے ہیں اور شاید ہم نے آج کے resolution میں بھی چھپا لیا ہے کہ مصر کے معاملے میں امریکہ نے جو یہ adopt کیا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور یورپ اس وقت مصر میں جمہوریت کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی منافقت کر رہے ہیں اور ہمیں اس بات کو بھی اجاگر کرنا چاہیے۔ ہمیں اس particular issue پر خود آگے بڑھ کر UN Security Council کا اجلاس بلانے کی درخواست کرنی چاہیے۔ ویسے تو امریکہ کے بہت سے چہرے ہیں لیکن ہمیں جمہوریت کے معاملے میں اس کے دو چہرے دنیا کے سامنے رکھنے چاہئیں۔ میں

افسوس سے کہتا ہوں کہ مصر کے معاملے میں سعودی حکومت کا رویہ قابل مذمت ہے، ہمیں آج سینیٹ میں اس پر مذمتی قرارداد لانی چاہیے تھی۔ بہت شکریہ۔

جناب قائم مقام چیئرمین: مشاہد اللہ صاحب۔

سینیٹر مشاہد اللہ خان: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی ڈاکٹر جہانگیر بدر صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ ان کی بہت خدمات ہیں، انہوں نے جمہوریت کے لیے نکالیے اٹھائی ہیں۔ انہوں نے جس شخصیت پر اپنا مقالہ لکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ محترمہ ایک بہت بڑی شخصیت تھیں، میں اپنی اور پارٹی کی طرف سے انہیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک بات یاد آئی اور میں اس وجہ سے بھی کھڑا ہوا تھا۔ ہمارے سینیٹ میں ایک اور شخصیت نے بھی ڈاکٹریٹ کی تھی، ان کی کسی نے بھی تعریف و توصیف نہیں کی۔

جناب قائم مقام چیئرمین: بابرا عوان صاحب کی بات کر رہے ہیں؟

سینیٹر مشاہد اللہ خان: جی، بالکل اور انہوں نے تو باہر کی یونیورسٹی سے کی ہے، ان کی تو زیادہ تعریف و توصیف ہونی چاہیے۔

جناب قائم مقام چیئرمین: کون سی یونیورسٹی سے کی ہے؟

سینیٹر مشاہد اللہ خان: یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن ڈاکٹر تو ہیں کیونکہ یہاں ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر بابرا عوان ہی لکھا جاتا ہے اور وہ پیپلز پارٹی کے بھی ہیں۔

جناب قائم مقام چیئرمین: بدر صاحب نے جس یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ہے، مجھے

پتا ہے کہ وہ one of the most prestigious and the oldest universities in the Sub Continent ہے۔ بابرا صاحب نے جس یونیورسٹی سے کیا ہے، آپ اس کا نام لیں۔

سینیٹر مشاہد اللہ خان: میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میرے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ ڈاکٹر بابر اعوان کی کیوں تعریف و توصیف نہیں ہوتی۔ انہوں نے تو باہر کی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہے۔ جہانگیر بدر صاحب نے بہت بڑا کام کیا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایک مقالہ لکھیں اور وہ آصف زرداری صاحب پر لکھیں تاکہ کچھ عرصے بعد آپ بھی ڈاکٹر صابر بلوچ ہو جائیں۔

جناب قائم مقام چیئرمین: انشاء اللہ۔

سینیٹر کامل علی آغا: آپ کو شاید پتا نہیں، مشاہد اللہ صاحب بھی ڈاکٹریٹ کر چکے ہیں، مذاقیات پر اور آج یہ ثابت ہو گیا ہے۔

جناب قائم مقام چیئرمین: رضا ربانی صاحب، آپ کا adjournment motion ہے، آپ move کریں۔ غفور حیدری صاحب، آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں؟ مولانا صاحب، problem یہ ہے کہ میں کتنی مرتبہ دیکھ چکا ہوں کہ آپ کی light کبھی بجھ رہی ہے، کبھی جل رہی اور اب پھر جل رہی ہے۔ مولانا صاحب۔

سینیٹر عبدالغفور حیدری: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی اپنے انتہائی لائق فائق بھائی جناب جہانگیر بدر صاحب کو اپنی پارٹی کی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے جس عرق ریزی، لگن اور محنت کے ساتھ اور اس میں پارٹی کا جذبہ بھی یقیناً ساتھ ہوگا، بہر حال وہ ایک بڑے اعزاز سے نوازے گئے ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ مہربانی۔

جناب قائم مقام چیئرمین: بڑی مہربانی۔ مشاہد اللہ خان صاحب، آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے advice کیا کہ میں صدر زرداری صاحب پر مقالہ لکھوں تو انشاء اللہ میں ضرور آپ کی زندگی میں کوشش کروں گا کہ ان کی بہادری، انہوں نے پاکستان میں جمہوریت کے لیے جو قربانیاں دیں، پاکستان میں رواداری اور شرافت کی سیاست کی، آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ transfer of power ایک پتلا بے بغیر ہوتی ہے، ایک نئی democratic government آتی ہے تو اس کا سہرا صرف

جناب آصف علی زرداری صاحب کے سر ہے۔ وہ deserve کرتے ہیں کہ نہ صرف میں بلکہ آپ بھی کتاب لکھیں اور انہوں نے پاکستان کے ہر شخص کا سر بلند کیا ہے۔ انشاء اللہ یہ process چلتا رہے گا کیونکہ انہوں نے جو بیج بویا ہے، انشاء اللہ وہ ایک تناور درخت بنے گا اور پاکستان کے کام آئے گا۔ رضا ربانی صاحب۔

سینیٹر میاں رضا ربانی: جناب! آپ کا شکریہ۔ یہ adjournment motion Leader of the Opposition چوہدری اعجاز احسن صاحب اور میری طرف سے ہے۔

Sir, the motion is that the House may be adjourned to discuss an urgent matter of public importance as reported in the national press dated 16th August, 2013 wherein an armed person held the entire Federal Capital hostage for more than five hours while the security operators helplessly looked on. This is a matter of urgent public importance.

Mr. Acting Chairman: Yes, Raja sahib, do you oppose it?

سینیٹر راجہ محمد ظفر الحق: جناب چیئرمین! اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک recent occurrence بھی ہے اور اس کی اپنی importance بھی ہے جو معاملہ capital میں ہوا ہے۔ اس کے متعلق media پر کافی کچھ آیا ہے اور سیاسی لوگوں نے بھی بیانات دیئے ہیں گو کہ میں خود حیران ہوں کہ مجھ سے نہ کسی اخبار اور نہ کسی television channel نے رابطہ کیا لیکن میرا بیان اور tickers چلتے رہے کہ میں نے ان کی بڑی تعریف کی ہے۔ میں اس لحاظ سے سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، یہ کیسے ہوا، یہ کس نے کیا، یہ کس نے کرایا، اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ میں درخواست کروں گا کیونکہ آج Private Members' Day ہے تو Minister for Interior بھی موجود نہیں ہیں تو اس پر notice دے کر ان کو کل یا پرسوں بلوایا جائے تاکہ وہ اس پر اظہار خیال کر سکیں۔ وہ خود بھی تحقیقات کروا رہے ہیں اور کمیٹی بھی بیٹھی ہے۔

جناب قائم مقام چیئرمین: جی میاں رضاربانی صاحب۔

سینیٹر میاں رضاربانی: یقیناً یہ بات House Business Committee میں نہیں
ہونی تھی لیکن راجا صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اس کو کل پر رکھیں۔

جناب قائم مقام چیئرمین: اس کو کل پر رکھیں یا کسی اور دن پر رکھیں۔

سینیٹر میاں رضاربانی: جناب! کسی اور دن پر نہ رکھیں، اس کو کل پر رکھ لیں۔

جناب قائم مقام چیئرمین: اس بات کی surety ہو کہ the Minister for Interior
will be here.

Senator Mian Raza Rabbani: The honourable Leader
of the House takes words for it.

جناب قائم مقام چیئرمین: وہ کہیں گے تو تب کل پر رکھیں گے۔ کیا کل
for Interior یہاں پر آئیں گے؟

سینیٹر راجہ محمد ظفر الحق: اگر وہ تشریف لاتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی اور
Minister آجائیں گے۔

جناب قائم مقام چیئرمین: مشاہد اللہ صاحب بھی وزیر کے برابر ہیں۔

سینیٹر میاں رضاربانی: میں راجہ صاحب سے معذرت سے کہوں گا کہ میرا راجا صاحب کے
لئے بہت احترام ہے لیکن معذرت سے کہوں گا کہ اس دن واقعہ ہوا، Minister for Interior
National Assembly سے نائب تھے۔ آج یہ matter Senate میں take up ہو رہا ہے اور اس
کا notice پہلے سے تھا۔ جناب! اگر Senate Secretariat نے ان کو notice نہیں کیا تو
that is not my fault. میں نے دو دن پہلے یہ adjournment motion داخل کر دیا تھا، the

urgent کہ یہ اتنا Minister for Interior should have in any case anticipated
 and burning issue ہے۔ پانچ سے چھ گھنٹے تک Federal Capital hostage رہا،
 Federal Government کہیں پر نظر نہیں آئی، Interior Minister کا کوئی پتا نہیں تھا، ایسے
 تھا جیسے اشتہار دینا پڑے گا کہ Interior Minister کہاں پر ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر
 Interior Minister آسکے، نہ وہ National Assembly کو seriously لے رہے ہیں، نہ وہ
 Senate کو seriously لے رہے ہیں اور نہ اسلام آباد کو seriously لے رہے ہیں۔

He will come here tomorrow, we will hold the debate tomorrow, we
 have no problem.

سینیٹر راجہ محمد ظفر الحق: میں نے Minister کو بھیجا ہے، وہ ان سے بات کر کے آ

جائیں۔

جناب قائم مقام چیئرمین: جی ڈار صاحب۔

سینیٹر محمد السحق ڈار: جناب! میں جب اس House میں آیا، میں National
 Assembly سے آیا تھا، وہ اسی issue پر already National Assembly میں statement
 دے رہے تھے تو Minister of State کو بھجوا یا ہے، وہ پتا کر لیتے ہیں، if he is still there,
 we can ask him to come here otherwise ان کو کل بلوالیں گے۔

Senator Mian Raza Rabbani: No sir, this is very clear

کہ وہ یہاں پر آکر اپنا ایک statement دے دیں اور وہ یہ سمجھیں کہ he has discharged his
 responsibility, no وہ ہمیں سنیں گے جو یہاں پر اعتراضات اٹھیں گے، میرے Interior
 Minister سے سترہ سوالات ہیں۔ یقیناً Leader of the Opposition اور Members کے
 دیگر سوالات ہیں، وہ یہ سوالات سنیں گے اور ان سوالات کے جوابات دیں گے۔ ہم ان کی بنائی ہوئی
 ایک standard statement سننے کے لئے تیار نہیں ہیں، ہم ان کی TV پر press

conference میں دو، دو گھنٹے یہ بھاشن سنتے رہے ہیں، let him come to the House, let him hear the House and then reply to the questions.

(اس موقع پر ایوان میں اذان مغرب سنائی دی)

جناب قائم مقام چیئرمین: راجا صاحب! میں کچھ کہنا چاہتا تھا۔

سینیٹر راجہ محمد ظفر الحق: میں آپ کے کہنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ چوہدری صاحب نے کہا کہ وہ کل شام کو available ہوں گے۔

جناب قائم مقام چیئرمین: کل شام کو available ہوں گے، میں یہ کہنا چاہتا تھا جو movers ہیں اور آپ دونوں آپس میں یہ طے کر لیں کہ آپ اس پر کل بات کرنا چاہیں گے یا کوئی notes لے لے گا۔

سینیٹر چوہدری اعتراز احسن (قائد حزب اختلاف): اس پر کل debate ہو جائے جب Interior Minister صاحب تشریف لے آئیں، وہ میٹھیں گے اور سارا وقت سن لیں گے۔
جناب قائم مقام چیئرمین: جی کامل علی آغا صاحب۔

سینیٹر کامل علی آغا: اس پر کل ضرور بات ہونی چاہیے یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے۔ یہ قومی سلامتی کے ساتھ منسلک ہے۔ جناب چیئرمین! اس کو ایوان کے اندر in detail discuss کریں یہ معمولی معاملہ نہیں ہے۔ جناب والا، اس میں بہت بڑا failure ہے من حیث القوم بھی اور حکومت تو مکمل ناکام ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ وزیر داخلہ کل آئیں گے وہ نہیں آئیں گے۔ دیکھیں پانچ ساڑھے پانچ گھنٹے سکندر نے دہشت گردی کی اور ایک دن بعد اڑھائی تین گھنٹے وزیر داخلہ نے میڈیا پر دہشت گردی کی اور لوگوں کو پریشان کیا اور خود admit بھی کیا اور resign بھی نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو سنجیدہ لینا چاہیے، یہ بہت بڑا failure ہے اور اس ناکامی پر کبھی کسی نے یہ جرات کی ہے کہ وہ admit بھی کر لے کہ میری غلطی ہے اور میں نے یہ سب کچھ کروایا اور ایک طرف یہ کہہ دیں کہ سکندر دہشت گرد نہیں ہے، دوسری طرف اس کے اور اس کی بیوی کے خلاف دہشت گردی کا پرچہ دیا۔ میں یہ کہتا ہوں

اس کو ضرور discuss کریں، اس کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں۔ اس پر پوری قوم کے سوالات ہیں۔

جناب قائم مقام چیئرمین: آٹا صاحب! کل جب وزیر صاحب ہوں گے تو اس پر بات کریں گے۔ ابھی کیا راجہ صاحب! اذان کی break دیں or you want to continue it یا مغرب کی نماز کے لیے break کریں یا adjourn کر دیں۔ جی۔

سینیٹر راجہ محمد ظفر الحق: میں آپ کے نوٹس میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ commitment کی ہے کہ کل شام کو چوہدری صاحب موجود ہوں گے تو اجلاس normally کل سویرے ہونا تھا مگر کل پھر یہ شام کو ہوگا۔

جناب قائم مقام چیئرمین: جی ہاں کل شام چار بجے ہوگا۔ چار بجے کا کل announce کیا ہوا ہے۔

سینیٹر چوہدری اعتراز احسن: جی ٹھیک ہے۔

Mr. Acting Chairman: The House stands adjourned to meet again on Tuesday, the 20th August, 2013 at 4.00 p.m.

[The House was then adjourned to meet again on Tuesday the 20th August, 2013 at 4.00 P.M.]